

Visit of External Affairs Minister to Kingdom of Bahrain (November 24-25, 2020)

November 25, 2020

وزیر خارجہ کا مملکت بحرین کا دورہ (24-25 نومبر، 2020)

25 نومبر، 2020

وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے آج مملکت بحرین کے اپنے دو روزہ سرکاری دورے کا اختتام کیا۔ اپنے اس دورے کے دوران، انہوں نے ولی عہد شہزادہ، نائب سپریم کمانڈر اور مملکت بحرین کے وزیر اعظم عزت مآب پرنس سلمان بن حمد آل خلیفہ اور بحرین کے نائب وزیر اعظم عالی جناب شیخ علی بن خلیفہ آل خلیفہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے ہم منصب بحرین کے وزیر خارجہ، عالی جناب ڈاکٹر عبدالطیف بن راشد الزیانی سے بات چیت کی۔

بحرین کے قیادت سے ملاقات کے دوران، انہوں نے حکومت ہند اور ہندوستان کی عوام کی جانب سے، بحرین کے سابق وزیر اعظم عزت مآب پرنس خلیفہ بن سلمان آل خلیفہ کے غمناک انتقال پر مخلصانہ تعزیت پیش کی۔ انہوں نے ہندوستان بحرین تعلقات کو مستحکم کرنے اور بحرین میں ہندوستانی برادری کی فلاح و بہبود کے لئے مرحوم وزیر اعظم کی شراکت کو یاد کیا۔

وزیر خارجہ نے بحرین میں 300000 سے زیادہ ہندوستانی برادری کی میزبانی کرنے اور کووڈ 19 وبائی مرض کے دوران بھارتی کمیونٹی کی غیر معمولی دیکھ بھال کرنے پر بحرین کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ بحرین کی قیادت نے بحرین کی ترقی میں ہندوستانی برادری کے تعاون اور کووڈ وبائی مرض کے دوران دوائیوں، طبی سامان اور طبی پیشہ ور افراد کی فراہمی کے ذریعے ہندوستان کی طرف سے فراہم کردہ امداد کو سراہا۔ دونوں فریقین نے اپنے کووڈ سے متعلقہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے مابین ایئر بیل انتظام کو عملی شکل دینے پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔

ڈاکٹر ایس جیشنکر نے بحرین کے وزیر خارجہ سے وفد کی سطح پر بات چیت کی۔ دونوں وزراء نے دوطرفہ امور کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا، جس میں کووڈ کے بعد کے چیلنجوں سے نمٹنے میں تعاون اور کوارڈینیشن شامل ہے۔ انہوں نے دفاع اور سمندری تحفظ، خلائی ٹیکنالوجی، تجارت اور سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، آئی ٹی، فن ٹیک، صحت، ہائیڈرو کاربن اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں سمیت دیگر تاریخی ہند - بحرین تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ نے آئندہ چند مہینوں میں بحرین کے وزیر خارجہ کو تیسرے ہندوستان - بحرین ہائی جوائنٹ کمیشن اجلاس میں ہندوستان آنے کے لئے دعوت کو دہرایا۔

اس دورے کے دوران، وزیر خارجہ نے بحرین میں ہندوستانی برادری کے رہنماؤں کے ساتھ بھی ورچوئل طریقے سے بات چیت کی۔ انہوں نے منامہ میں 200 سال پرانا شری ناتھ جی (شری کرشنا) کے مندر کا دورہ کیا۔ یہ مندر اور اس کے آس پاس بھارت کے متعلق چھوٹا بیکل پائیدار بھارت - بحرین دوستی کی گواہی کے طور پر کھڑا ہے۔ انہوں نے بحرین کے نیشنل میوزیم کا بھی دورہ کیا۔

منامہ

25 نومبر، 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.